

128751- قسم اٹھانی کہ اگر بیٹے نے کسی معین عورت سے شادی کی تو بیوی کو طلاق

سوال

میرے خاوند نے قسم اٹھانی کہ جب اس نے سنا کہ اس کے بیٹے نے کسی معین عورت سے عقد نکاح کر لیا تو مجھے طلاق یہ علم میں رہے کہ اس نے یہ قسم پہلے بھی دوسرے مواقع پر دو بار اٹھائی تھی، اور یہ تیسری بار ہے، اس نے بالفعل سن لیا کہ بیٹے نے کسی عورت سے لکھانی کی لیکن رجوع کر لیا، اور مجھے کہنے لگا: اگر اس نے شادی کا اسٹام دیکھ لیا تو مجھے طلاق دے دے گا، اس سلسلہ میں دینی حکم کیا ہے؟ اور خاوند کے متعلق میرا موقف کیا ہو؟

پسندیدہ جواب

اگر خاوند قسم طلاق کی قسم اٹھانے کہ جب اس نے سنا کہ بیٹے نے کسی معین عورت سے عقد نکاح کیا تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، پھر اس نے اسے سن بھی لیا تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ خاوند کی ظاہری عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف سننے سے ہی طلاق نہیں دے گا، بلکہ ضروری ہے کہ وہ سننے کے بعد طلاق دے۔

اس بنا پر خاوند کی جانب سے یہ کلام طلاق کی دھمکی ہے تو اسے حق ہے کہ وہ طلاق دے یا طلاق نہ دے، اور جب وہ طلاق نہیں دیتا تو صرف اس کلام کی بنا پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ تو اس صورت میں ہے جب اس نے کہا ہو کہ وہ اسے طلاق دے دے گا۔

لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ: جب اس نے یہ سنا تو اس کی بیوی کو طلاق، تو اس کا حکم پہلے الفاظ سے مختلف ہوگا۔

جسور اہل علم کے ہاں صرف سننے سے ہی طلاق واقع ہو جائیگی، اور اسے طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔

اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ خاوند کی نیت پر منحصر ہوگا۔

اگر تو اس نے بیٹے کو ڈرانا اور دھمکانا چاہا اور اسے اس عورت سے شادی سے روکنا چاہا اور طلاق کا ارادہ نہیں تھا، تو اس کو قسم کا کفارہ لازم ہوگا، اور طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اور اگر طلاق واقع ہونے کی نیت کی تو صرف خبر سننے ہی ایک طلاق واقع ہو جائیگی۔

خاوند کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اسے اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور اسے طلاق کے الفاظ استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں احکام اور اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

اسے معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کے مسائل کا مرجع شرعی عدالت ہے، خاص کر اختلاف اور خاوند کی نیت کا یقین نہ ہونے کے وقت کہ اس نے طلاق کے کلمات کس لیے بولے تھے شرعی عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔

واللہ اعلم۔